

غیر ہوتو اندر معاہدہ سات (7) ہم زبردستی سے تحریری اعتراض یا معذرت راہ پر گزرتے ہوئے گذرے ہوتے کوئی
مذہب اعتراض قابل قبول نہ ہوگا۔ اور راضی مذکورہ بالا کے ہوتا ہے کہ کسی شخص کو ہائی جوائنٹ کی۔

اسٹور امجد پرویز چوہدری ایڈووکیٹ ہائیکورٹ الانیڈ لاء گروپ
LG-8 جوبہری کمپلیکس 2 منگ روڈ لاہور 042-37362435, 0300-4263561

فوجی فوڈز لمیٹڈ
fauji foods

CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کے **CDS** اکاؤنٹس میں نان ووٹنگ عمومی حصص سے
تبدیل شدہ عمومی حصص کی منتقلی / فزیکل شیئرز سرٹیفکیٹس برائے تبادلہ تیار ہیں
کمپنی کے ووٹنگ اور نان ووٹنگ عمومی حصص یافتگان کو بسمت مطلع کیا جاتا ہے کہ مورخہ 26 مارچ
2018 کو منعقدہ کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں ممبران کی جانب سے منظوری کے بعد نان ووٹنگ
عمومی حصص سے تبدیل شدہ عمومی حصص مورخہ 06 اپریل، 2018 کے دن کے اختتام پر سینٹرل
ڈیپوٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) کے اکاؤنٹ ہولڈرز کے متعلقہ **CDS** اکاؤنٹس
میں منتقل کر دیے گئے ہیں۔ فزیکل شیئرز سرٹیفکیٹس کے حاملان نان ووٹنگ حصص (جنہیں منسوخ کیا جا چکا
ہے) کے اصل شیئرز سرٹیفکیٹس کے تبادلہ میں تبدیل شدہ عمومی حصص کے شیئرز سرٹیفکیٹس، ذاتی طور
پر یا عیاریہ نمائندے کے ذریعے، کمپنی کے شیئرز رجسٹر اریسٹرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ،
Wings Arcade, 1-K, Commercial ماڈل ٹاؤن لاہور سے دفتری اوقات میں
حاصل کر سکتے ہیں۔

بریکنگ پر رضوان رفیع (ر)
کمپنی سیکریٹری

مورخہ: 09 اپریل 2018

فوجی فوڈز لمیٹڈ
رجسٹرڈ آفس: قریب طور، گریڈ کمپلیکس 103 A/B، شاہراہ قائد اعظم، لاہور۔

خبردار! فرین میں بغیر ٹکٹ سفر کرنے سے گریز کریں ورنہ جرمانہ اور قید کی سزا ہو سکتی ہے
پاکستان ریلویز
نوٹس: اظہارِ وجہ

ریجنل پرنسپل اور ایڈیٹورس سسٹمز سرچہ
CDA اسلام آباد فون نمبر 051-9252964
051-9252964

ٹینڈر نوٹس
از دفتر سٹریٹس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ سرگودھا
سٹریٹس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ سرگودھا کے تحت چلنے والے PARB پر ایکٹ نمبر 904 بعنوان "Nutrition Enhancement of Crops, Fruits, Vegetables and their products under climate change scenario" کے لیے Constant climate chamber درکار ہے۔ مذکورہ آئٹم کی Technical Specifications دفتری اوقات یا PPRAI کی Website پر حاصل کی جاسکتی ہیں۔ ٹینڈر رقعہ کروانے کی آخری تاریخ 04-05-2018 بوقت 11:00 بجے تک ہے جبکہ ٹینڈر راسی دن و تاریخ کو بوقت 3:00 بجے سہ پہر پر چھپتی دفتر ڈاک کی موجودگی میں کھولے جائیں گے۔
اسٹور محمد نواز خان ڈائریکٹر سٹریٹس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ (IPL-4477)
رسالہ نمبر 5 پوسٹ بکس نمبر 72 سرگودھا آفس فون نمبر: 048-3701312

SASM
سندھ آباد گارڈ شوگر ملز لمیٹڈ
کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244(1)(b) کے تحت
بحوالہ غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ
حتمی نوٹس
بذریعہ ہذا نوٹس مطلع کیا جاتا ہے کہ سندھ آباد گارڈ شوگر ملز لمیٹڈ (کمپنی) کی طرف سے جاری کردہ
شیئرز ڈیویڈنڈ کے متعلقہ حصص یافتگان کی تفصیلی کمپنی کی ویب سائٹ www.sasmltd.com پر موجود
ہے۔ تین سال سے زائد عرصہ سے قابل ادا ہونے کے باوجود اب تک غیر دعویٰ شدہ یا غیر ادا شدہ ہیں۔
اس سلسلے میں، تمام حصص یافتگان کو نوٹس بذریعہ رجسٹرڈ پوسٹ ارسال کئے جاسکے ہیں، جس میں انہیں
ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے تعلیم 90 دن کے اندر کمپنی کو مطلع کر دیں، تاہم اس سلسلے میں اب تک کوئی
جواب موصول نہیں ہوا سوائے کچھ حصص یافتگان کے۔
لہذا کمپنی کو مندرجہ بالا حصص یافتگان سے نوٹس ہذا کی تاریخ سے 90 دن کے اندر ہمارے دفتر سندھ
آباد گارڈ شوگر ملز لمیٹڈ، سوئٹ نمبر 209، دوسری منزل، پروگریسیو پلازہ، نیو موٹ روڈ، کراچی یا
کمپنی کے شیئرز رجسٹر اریسٹرز JWAFS، رجسٹر اریسٹرز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 407-408، الامیرہ
سینٹر، شاہراہ عریق، صدر، کراچی پر تعلیم مطلوب ہیں
اگر اس نوٹس کی تاریخ سے مقررہ مدت کے اندر دعویٰ موصول نہ ہوا تو کمپنی، کمپنیز ایکٹ 2017 کی
دفعہ 244 کی ذیلی دفعہ (2) کے تحت غیر دعویٰ شدہ شیئرز ڈیویڈنڈ ادا شدہ یا غیر ادا شدہ حکومت کے پاس جمع
کرائے کی کارروائی کا آغاز کر دے گی۔
کراچی: مورخہ 11 اپریل 2018ء
کمپنی سیکریٹری

حضرات
پیل ہے
کراس فنڈ
جمع کروائیں
برائے
بنگلہ دیش
ع قاطمہ
لاہور
01380
لاہور

SAY NO TO CORRUPTION
یوں وکمرشل سامان کا نیلام عام
11:00 بجے "جہاں ہے، جیسے ہے" کی بنیاد پر نیلام عام ہوگا۔
CFS پر تین ہفتے کیس ایڈکیری ٹرانزٹ گاڑیاں وکمرشل سامان، پریم نمبر

SOYEM

Soyem of late **Haji Abdul Rehman Khatri** on Thursday dated 12th April 2018 at Ali Masjid DHA Phase Six off Bukhari Commercial Karachi, between 9:30 am to 10:30 am.

Bereaved Family

Khatri Abdul Rasheed, Abdul Rauf, Abdul Raheem, Usman Ghani Khatri and Members of Khatri Family Chemi Group of Industry Ittehad Chemicals Lahore



SUI NORTHERN GAS PIPELINES LTD.

Gas House, 25- Kashmir Road, Lahore www.sngpl.com.pk

TENDER ENQUIRY NO. SKT/100%/Cost/DEV/3/17

A. Offers are invited from Contractors/Firms for following Services / Work:-

Sr. No.	Description	Qty. Nos.
Local Tenders		
1.	Laying of 1650 meters 2" dia pipe jamke cheema 100% cost job and reinstatement of above mentioned laid pipe. Details are available in tender documents	1650 Meters

Opening Date: 30.04.2018

The closing date of our tender enquiry no. SKT/DEV 3/17 for laying of above mentioned Pipe is hereby extended from 06.04.2018 to 30.04.2018. All other terms and conditions including opening / closing time will remain the same.

SAY NO TO CORRUPTION PERIOD 4/25/17



Fauji Foods Limited

NOTICE OF CREDIT OF CONVERTED SHARES OF FAUJI FOODS LIMITED IN CDS ACCOUNTS / PHYSICAL SHARE CERTIFICATES ARE READY FOR EXCHANGE

We are pleased to notify our shareholders that having been approved by the members of the Company at their Annual General Meeting held on March 26, 2018, the Ordinary Shares, converted from Non-Voting Ordinary Shares into Ordinary Shares, have been credited in their respective CDS Accounts, maintained with the Central Depository Company of Pakistan, Limited (CDC), in book entry form at the end of day of April 06, 2018. The holders of physical share certificates of Non-Voting Ordinary Shares may collect, personally or through authorized representative(s), physical share certificates of Ordinary Shares in exchange of original share certificates of Non-Voting Ordinary Shares (being cancelled) from our Share Registrar M/s Corplink (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore during working hours.

BRIG RIZWAN RAFI (RETD)
Company Secretary

Dated: 09/04/2018

FAUJI FOODS LIMITED

Registered Office: 3rd Floor, Rafia Complex Tower, 102 A/B, Shalimar-e-Quadrant, Lahore.

National Electric Power

Company shall not be less than fifteen percent or fifty million shares whichever is higher; and the shareholders equity of such company shall not be negative.

Where investment is made in bonds, redeemable capital, debt securities or instruments issued by a statutory body or listed debt securities of a company; such securities shall be assigned a minimum rating of "AA-" by a credit rating company licensed with the Commission and with at least a stable outlook at the time of investment, provided that the Commission may, from time to time, change the minimum rating of a security assigned in this clause.

Where investment is made in collective investment schemes which may invest in debt securities, the investment policy of such scheme shall be in line with the criteria provided in clause (b) of Regulation 4.

Where investment is made in money market collective investment schemes, it shall be made only in those money market schemes which have been assigned a minimum rating of "AA-" by a credit rating company licensed with the Commission and with at least a stable outlook at the time of investment, provided that the Commission may, from time to time, change the minimum rating of a security assigned in this clause.

Where investment is made in equity collective investment schemes, the investment policy of such schemes shall be in line with the criteria provided.

The SECP said that the investment in IPO shall be made subject to the following conditions, namely:- invest-

Where the aggregate investment in listed equity securities, other than equity collective investment schemes is fifty million rupees or above, the fund or trust shall appoint or seek advice from investment advisor holding a valid license from the Commission for providing investment advisory services.

Provided that where investment is made on the advice of the investment advisor, the conditions for investment criteria provided in clause (iv)(a) of Regulation 4 shall not be applicable.

Provided further that, investment advisor will be held liable under Section 282F of the repealed Companies Ordinance, 1984 in case of loss to fund or trust due to his negligence.

The investment shall not be made in a listed debt security if issuer of the security has defaulted any of its financial obligations. The fund or trust, as the case may be, shall be managed by the qualified individuals having requisite skills, knowledge and experience in the capital market in order to ensure that the investment and the interest of the employees are protected.

The fund or trust, as the case may be, shall develop and maintain appropriate investment policies explaining investment limit, investment avenues and risk appetite including but not limited to business allocation among the brokers. Moreover, the fund or trust, as the case may be, shall invest in liquid securities and shall refrain from activities including day trading, investment in future markets (except spread transactions) and investment in securities either through borrowing or through leverage.

Finance and P&D reforms Senate bodies may be formed in ongoing week

ZAHEER ABBASI

committee meetings for